

طالب علم :  
گریڈ :  
مستند کلاس :  
استاد :  
اسکول :

عزیزی ،

ہم آپکو نیویارک شہر اسکولز اکاؤنٹ کے لیے رجسٹر کرنے کے لیے مدعو کرتے ہیں جو کہ آپکو اپنے بچے کی پیش رفت کے متعلق کلیدی معلومات تک رسائی حاصل کرنے کا ایک نیا طریقہ فراہم کرتا ہے۔ اپنے نیویارک شہر اسکولز اکاؤنٹ کے ساتھ آپ کسی کمپیوٹر، سمارٹ فون یا ٹیبلیٹ پر دس تک زبانوں میں اپنے بچے کی حاضری، رپورٹ کارڈ گریڈز، اور عمومی طالبانہ معلومات ملاحظہ کرسکیں گے۔

آپ کسی بھی کمپیوٹر سے یا انٹرنیٹ سے رابطہ کے آلے کے ذریعے ذیلی اقدامات پر عمل کر کے رجسٹر کرسکتے ہیں:

1. <http://schools.nyc.gov/myaccount> پر جائیں اور لاگ ان صفحے پر "Create Account" لنک کا انتخاب کریں۔
2. اپنا نو عددی طالبانہ آئی ڈی نمبر درج کریں۔ آپ اپنے بچے کے رپورٹ کارڈ پر اسکا طالبانہ آئی ڈی نمبر تلاش کرسکتے ہیں۔ اگر آپکے پاس آپکے بچے کا آئی ڈی نمبر نہیں ہے تو اپنے اسکول سے رجوع کریں۔
3. یگانہ اکاؤنٹ تخلیق کوڈ درج کریں، جو آپکے اور آپکے کے لیے مخصوص ہے:

اکاؤنٹ تخلیق کوڈ:

4. اسکے بعد "Next" پر کلک کریں۔
5. اپنا ای میل پتہ اور پاس ورڈ درج کریں اور اسکی تصدیق کریں۔
6. "Create Account" کو چنیں اور پھر اپنی ای میل اور پاس ورڈ کے ذریعے سائن ان کرنے کے واسطے "SIGN IN" پر کلک کریں۔

اگر آپکا نیویارک پبلک اسکولوں میں ایک سے زائد بچہ درج ہے، تو آپ ہر ایک بچے کے لیے ایک خط موصول کریں گے جس پر انکا منفرد اکاؤنٹ تخلیق کوڈ شامل ہوگا۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپکو صرف مذکورہ اقدامات نمبر 2 اور 3 میں اپنے کسی ایک بچے کا طالبانہ آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ تخلیق کوڈ درکار ہوگا۔ ایک بار اکاؤنٹ کھلنے کے بعد، آپ "Manage My Account" صفحے پر اپنے بقیہ بچوں کے طالبانہ آئی ڈی اور اکاؤنٹ تخلیق کوڈ درج کر کے انہیں اکاؤنٹ میں شامل کرسکتے ہیں۔

ہر ایک اکاؤنٹ تخلیق کوڈ آپکے اور آپکے بچے کے لیے یگانہ ہے اور اسے دوسروں کے ساتھ نہیں بانٹنا چاہیے۔ اگر آپ اس خط میں حوالہ دیے گئے والدین نہیں ہیں، تو اپنے بچے کے ریکارڈز تک رسائی میں مدد حاصل کرنے کے لیے اپنے اسکول سے رجوع کریں یا 311 پر فون کریں۔

ہمیں امید ہے کہ آپکا نیویارک اسکولز اکاؤنٹ آپکو اپنے بچے کی تعلیم میں شرکت کرنے کا ایک گراں قدر طریقہ مہیا کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہم آپکو <http://schools.nyc.gov/nyschools> ملاحظہ کرنے کے لیے مدعو کرتے ہیں۔ اگر آپکے اپنے اکاؤنٹ کھولنے کے متعلق سوالات ہیں، تو برائے مہربانی اپنے بچے کے اسکول سے رابطہ کریں یا 311 کو فون کریں۔ اگر آپکو انگریزی کے علاوہ کسی دیگر زبان میں اکاؤنٹ کھولنے کے متعلق امداد درکار ہے تو اپنے اسکول کے لسانی رسائی رابطہ کار یا والدین ربط دہندہ سے رجوع کریں۔

بصد خلوص،

پرنسپل